

# Always here to help you


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Question?  
Contact  
Philips



GC160  
GC150

GC160, GC150



## User manual

# PHILIPS



[www.philips.com](http://www.philips.com)



4239.000.8382.1

**Introduction**

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Important**

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

**Danger**

- Never immerse the iron in water.

**Warning**

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance can be used by children aged from 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the iron and its cord out of the reach of children less than 8 years of age when it is connected to the mains or cooling down.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

**Caution**

- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance and also when you leave the iron even for a short while: put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- The appliance is intended for household use only.

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

**Environment**

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 8).

**Support**

If you need support or information, please visit the Philips website at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the worldwide guarantee leaflet.

**Introdução**

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Importante**

Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

**Perigo**

- Nunca mergulhe o ferro dentro de água.

**Aviso**

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada na placa de identificação corresponde à tensão eléctrica local.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio ou o próprio aparelho apresentarem sinais visíveis de danos ou se tiver deixado cair o aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Nunca abandone o aparelho quando estiver ligado à alimentação eléctrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se forem alertadas os perigos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham idade superior a 8 anos e sejam supervisionadas.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Mantenha o ferro e o seu cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos quando este estiver ligado à alimentação ou a arrefecer.
- Não deixe que o fio de alimentação entre em contacto com a base quente do ferro.

**Cuidado**

- A base do ferro pode ficar extremamente quente e causar queimaduras se for tocada.
- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra.
- Verifique regularmente se o fio de alimentação se encontra danificado.
- Coloque e utilize sempre o ferro sobre uma superfície estável, plana e horizontal.
- Quando terminar de passar, quando limpar o aparelho e também quando abandonar o ferro mesmo por pouco tempo: coloque o ferro em posição de descanso e retire a ficha de alimentação da tomada eléctrica.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.

**Campos electromagnéticos (CEM)**

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

**Meio ambiente**

- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 8).

**Suporte**

Se precisar de assistência ou informações, visite o Web site da Philips em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou leia o folheto da garantia mundial.

**한국어****소개**

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)에서 제품을 등록하십시오.

**중요 사항**

본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

**위험**

- 다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

## 경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 플러그, 전원 코드, 제품 본체에 눈에 띠는 손상이 있거나 제품을 떨어뜨린 적이 있다면 절대 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 열판이 가열되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하십시오.

## 주의

- 다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 수도 있습니다.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 다리미는 항상 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.
- 다림질을 마쳤을 때, 다리미 본체를 닦을 때, 잠시라도 다리미를 켜두고 자리를 비울 때에는 다리미를 반침대에 세워 놓고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.

## EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

## 환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 8).

## 지지대

지원 또는 정보가 필요한 경우에는 필립스전자 홈페이지 ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

**제조번호 부여기준 :** 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우 :** 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우 :** 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우 :** 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우 :** 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.**

## BAHASA MELAYU

### Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Penting

Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

### Bahaya

- Jangan sekali-kali tenggelamkan seterika di dalam air.

### Amaran

- Periksa sama ada voltan yang ditandakan di atas plat jenis sepadan dengan voltan sesalur kuasa setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau perkakas itu sendiri menunjukkan kerosakan yang nyata, atau jika perkakas telah terjatuh.
- Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.

- Jangan biarkan perkakas tanpa dijaga apabila ia bersambung dengan sesalur kuasa.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkaitan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jauhkan perkakas dan kord sesalur kuasanya dari capaian kanak-kanak.
- Jangan biarkan tali aliran elektrik utama bersentuh dengan tapak plat seterika yang panas.

### Awas

- Bahagian plat tapak seterika boleh menjadi amat panas dan mungkin menyebabkan kelecuran jika tersentuh.
- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan.
- Periksa kord sesalur kuasa secara tetap untuk mencari apa-apa kerosakan.
- Sentiasa letak dan gunakan seterika pada permukaan yang stabil, rata dan mendatar.
- Selepas anda selesai menyeterika, semasa anda membersihkan perkakas dan juga semasa anda membiarkan seterika walaupun sebentar: berdirikan seterika pada tumitnya dan cabut palam sesalur dari soket dinding.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga sahaja.

### Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berhubung dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan mematuhi arahan dalam manual pengguna ini, perkakas selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang boleh didapati pada masa ini.

### Alam sekitar

- Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir hayatnya, sebaliknya serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk dilitar semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara alam sekitar (Fig. 8).

### Sokongan

Jika anda perlukan sokongan atau maklumat, sila lawati laman web Philips di [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) atau baca risalah jaminan sedunia.

## ภาษาไทย

### ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับเลือกเป็นผู้ตัวแทนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก Philips มอบให้ไปร่วมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### ข้อสำรวม

โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียดก่อนใช้งานครั้งแรกเพื่อให้เก็บข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญในภายหลัง

### อันตราย

- ไม่ควรนำเครื่องดูมลในน้ำ

### คำเตือน

- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบเรื่องรักษาไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- ห้ามใช้งานเครื่องหากพบว่าไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ที่ร้อนจัด
- หากสนใจใช้รุ่นที่ไม่สามารถต่อสายไฟได้ ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือบุคลากรที่ผ่านการอบรมจาก Philips ดำเนินการเปลี่ยนไฟฟ้า
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟฟ้าไว้
- ไม่ควรให้หุ่นยนต์ (รวมทั้งเด็กเล่น) ที่เสียหายร้าวไฟฟ้า ไม่สมบูรณ์ ประจำลักษณะไม่สมบูรณ์หรือสภาพชำรุดให้เข้าสู่หุ่นยนต์
- หุ่นยนต์ที่ชำรุด ควรนำมายังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือบุคลากรที่ผ่านการอบรมจาก Philips ดำเนินการซ่อมแซมและทดสอบความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลพิเศษเมื่อใช้ไฟฟ้า
- เก็บเครื่องและสายไฟให้หัวแม่เหล็กติดกัน
- ไม่ควรให้สายไฟลากลัดดังนั้นควรห้ามอ่อนแรง

### ข้อควรระวัง

- แต่งความร้อนของเด็กไม่ควรมีห้องนอนสูง อาจทำให้เด็กหลังหันไฟฟ้าหันไปหากลับผิดทาง
- เสียบปลั๊กไฟเข้าหัวปลั๊กที่ต่อสายเดินไฟรีบอย่างรวดเร็วทันที
- ห้ามตรวจสอบสายไฟให้หัวปลั๊กไฟรีบอย่างรวดเร็วทันที
- วางและใช้งานเครื่องบนพื้นที่รักษาและมั่นคงเท่านั้น
- เมื่อต้องดูแลเด็ก ทารก ความระดับเด็กต้องไม่สูงกว่าขนาดเสียงปลั๊กไฟอยู่ ควรดูแลเด็กที่นั่นจากนั้นกดดึงปลั๊กไฟต่อไปเมื่อเด็กออกจากหัวบันได
- เตรียมไฟฟ้าสำรองสำหรับการใช้งานในครัวเรือนท่านนั้น

### Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips ได้มาตรฐานด้านรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากถูกนำไปใช้งานอย่างถูกต้องตามที่ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณ

## lắng nghe

- Khi bạn đã cắm thiết bị vào ổ cắm điện, hãy thử rút ra và cắm lại để đảm bảo rằng thiết bị vẫn hoạt động bình thường.
- Nếu thiết bị không hoạt động sau khi đã cắm vào, hãy thử cắm vào một ổ cắm khác để xác định xem có phải là lỗi của ổ cắm không.
- Nếu thiết bị vẫn không hoạt động sau khi đã thử cắm vào một ổ cắm khác, hãy liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của Philips.

## Điện áp

- Thiết bị này chỉ hoạt động với điện áp 220V-240V. Không sử dụng với điện áp thấp hơn hoặc cao hơn.
- Không cắm thiết bị vào ổ cắm điện có công suất quá tải.
- Không cắm thiết bị vào ổ cắm điện chia sẻ với các thiết bị khác.

## Tiếng Việt

### Giới thiệu

Chào mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Quan trọng

Hãy đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị và hãy cất giữ nó để tiện tham khảo sau này.

#### Nguy hiểm

- Không được nhúng bàn ủi trong nước.

#### Cảnh báo

- Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng thông số có tương ứng với điện áp nguồn hay không.
- Không sử dụng thiết bị này nếu phích cắm, dây điện hoặc chính bản thân thiết bị có biểu hiện hư hỏng biểu hiện ra bên ngoài, hoặc nếu bàn ủi đã bị rơi.
- Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hoặc thiểu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
- Không để dây điện nguồn tiếp xúc với mặt đế khi còn nóng.

#### Chú ý

- Mặt đế rất nóng và có thể gây bỏng nếu chạm vào.
- Chỉ nôi thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
- Kiểm tra dây điện nguồn thường xuyên về những hư hỏng có thể xảy ra.
- Luôn đặt và sử dụng bàn ủi trên bề mặt phẳng, nằm ngang và chắc chắn.
- Khi ủi xong, khi lau chùi và cả khi không ủi thậm chí chỉ trong chốc lát: đừng đứng bàn ủi và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.

### Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

### Môi trường

- Không vứt thiết bị cùng với chất thải gia đình thông thường khi châm dứt sử dụng thiết bị. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 8).

### Hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập trang web của Philips tại [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu.

## 繁體中文

### 簡介

感謝您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

### 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀此重要資訊，並保留說明以供日後參考。

#### 危險

- 請勿將熨斗浸泡在水中。

#### 警語

- 在使用前，請先檢查標籤上所標示的電壓是否與當地的電源系統電壓一致。
- 插頭、電線或產品本身受損時，抑或是產品曾摔落時，請勿使用。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 當本產品連接到電源時，必須有人看顧。

基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。

- 請勿讓孩童使用本產品或將本產品當成玩具。

- 請勿讓兒童接觸產品與電源線。

- 請勿讓電源線靠近接觸熨斗的熱底盤。

#### 警告

熨斗的底盤可能會變得很燙，如果碰到可能會燙傷。

- 只將產品連接到有接地的電源插座。

- 定期檢查電線是否受損。

- 請將熨斗放置在平穩的水平面上使用。

- 當您熨燙完畢、清理熨斗，或即使短暫離開熨斗時：請將熨斗直立在其跟部上，並且將電源插頭從插座拔出。

- 本產品僅供家用。

#### 電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁波 (Electromagnetic field, EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全顧慮。

### 環境保護

- 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。（圖 8）

### 支援

如果您需要支援或資訊，請造訪飛利浦網站：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)，或參閱全球保證書。

## 简体中文

### 简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦所提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。

### 注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

#### 危险

- 切勿将熨斗浸泡到水里。

#### 警告

- 连接产品电源前，请检查产品所标示的电压与当地电源电压是否一致。

- 如果插头、电源线、产品本身已经有明显损坏，或产品曾发生过摔落，请勿再进行使用。

- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由飞利浦、飞利浦特约维修中心或有同等维修资格的专业人员来进行更换。

- 电源接通期间，使用者不得离开。

- 肢体不健全、精神有障碍及缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）必须在监护人的监督及指导下使用。

- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。

- 请将产品和电源线放在儿童接触不到的地方。

- 切勿让电源线触及高温电熨斗底板。

#### 注意

- 使用时熨斗的底板会非常烫，触碰底板会导致烫伤。

- 产品只能使用带接地线的插座。

- 定期检查电源线是否损坏。

- 务必在稳固、平整且水平的表面上放置和使用熨斗。

- 当完成熨烫，需要清洁产品产品或是短时间平放熨斗后，请使熨斗直立，并拔下电源插头。

- 本产品仅限于家用。

#### 电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合电磁场 (EMF) 所有相关标准。就目前的科学研究证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

### 环保

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾扔在一起，应将其交给指定的回收中心，这样做有利于环保。（图 8）

### 支持

如果您需要支持或信息，请访问飞利浦网站 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 或阅读全球保修卡。

هنيئاً لك على شرائك هذا الجهاز ومرحباً بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجلِي منتجك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

يرجى قراءة هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

لا تحاول أبداً أن تغمر المكواة في الماء.

تأكد من أن درجة الفولتية الموضحة على لوحة الطراز تتوافق مع فولتية التيار الكهربائي المحلي قبل توصيل الجهاز. إذا ظهر أي تلف على القابس أو سلك التيار الكهربائي أو الجهاز نفسه أو إذا تعرض الجهاز للسقوط.

في حال تلف سلك توصيل الكهرباء، يجب استبداله عن طريق شركة Philips أو من أي مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة شخص على نفس الدرجة من التأهيل لتفادي وقوع الخطأ.

لا ترك الجهاز دون مراقبة عندما يكون موصلاً بالكهرباء.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوفر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق شخص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.

يجب مراعاة الأطفال للتأكد من عدم عبتهم بالجهاز.

احفظ بالجهاز والسلك الكهربائي الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.

لا تسمح لسلك التيار الكهربائي بملامسة قاعدة الكي عندما تكون ساخنة.

يمكن أن تصير قاعدة الكي ساخنة جداً وقد تسبب حروقاً في حالة ملامستها.

قم بتوصيل الجهاز بمقبس حائط مؤرض فقط.

افصل سلك التيار الكهربائي بانتظام للكتشف عن التلف المحتمل.

احرص دوماً على وضع واستعمال المكواة على سطح أدقق ثابت ومستوي.

عند الانتهاء من الكي وعند تنظيف الجهاز وأيضاً عند ترك المكواة ولو لفترة وجية: ثبت المكواة على المؤخرة وانزع القابس من مقبس الحائط.

هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط.

## المجال الكهرومغناطيسي (EMF)

هذا الجهاز من شركة Philips يتوافق مع كل المعايير المتعلقة بالمجال الكهرومغناطيسي (EMF). يمكنك ضمان استخدام هذا الجهاز بشكل آمن إنما تم التعامل معه بشكل صحيح وحسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هنا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة حتى اليوم.

## الحفاظ على البيئة

لا تخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، ولكن قم بتسليميه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. فأنت تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل 8).

إذا كنت بحاجة إلى دعم أو معلومات، يرجى زيارة موقع شركة Philips الإلكتروني على العنوان [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو قراءة كتيّب الضمان العالمي.

بخار اين خريد به شما تبريك من گويم و به Philips خوش آميدا برای استفاده كامل از پشتيباني اريه شده Philips. محصول خود را در [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ثبت کنيد.

اين اطلاعات مهم را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانيد و آنها را برای مراجعة آينده نگهداري کنيد.

هيچگاه اتو را در آب فرو نبريد.

قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنيد که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگ داشته باشد.

از دستگاه در صورت که دوشاخه، سیم یا خود دستگاه دارای آسیب قابل رویت بوده، يا در صورتی که دستگاه سقوط کرده باشد، استفاده نکنید.

اگر سیم برق صدمه دیده باشد، باید آن را شرکت Philips يا مرکز خدمات مجاز توسط شرکت Philips يا افرازي تاييد شده ديجير براي اجتناب از بجاح خطر، تعويض نمایند.

هرگز دستگاه را در زمانی که به برق وصل است بدون توجه رها نکنيد.

اين دستگاه برای استفاده اشخاص که دارای وضعیت ضعف جسمان (شامل کودکان هم من شود) بوده يا عقب ماندگی ذهنی يا حس داشته و يا فاقد تحریره و اطلاعات لازم من باشند طراحی نشده است مگر اينکه اينگونه اشخاص تحت آموزش و يا سريري توسط افرادی که مسئوليت حفاظت آنها را دارند قرار داشته باشند تا بتوانند از دستگاه استفاده کنند.

کودکان باید تحت مراقبت قرار داشته باشند تا مطمئن شويد که با دستگاه بازي نمی کنند.

اجاره ندهيد کودکان بدون نظرت از دستگاه استفاده کنند.

دستگاه و سیم برق آن را از دسترس بگذران دور نگاه داريد.

اجاره ندهيد که سیم برق با صفحه اتو در هنگام که داغ است تماس حاصل گند.

صفحه اتو می تواند بسیار داغ شود و در صورت تماس ممکن است باعث سوختگ شود.

دستگاه را فقط به پریزی که اتصال زمین داشته باشد وصل کنيد.

سیم برق را بطور منظم به جهت وجود آسیب احتمالی برسی کنيد.

همیشه اتو را روی سطوح يادار، تازه و افق قرار دهيد.

هنگام که اتوکش به پایان رسید، هنگام که دستگاه را تمیز می کنید و همچنین هنگام

که حتی برای مدت کوتاه اتو می کنید، موارد زیر را رعایت کنيد: اتو را روی پاشنه قرار داده و دوشاخه برق را از پریز ببرون بکشيد.

این دستگاه فقط برای استفاده خانگ طراحی شده است.

## ميدانهای الكترو مغناطيسي (EMF)

اين دستگاه Philips از كليه استانداردهای ميدان الكترو مغناطيسي (EMF) پيروي مي کند.

در صورت استفاده صحيح و بهره گيری از دستورالعمل های موجود در اين دفترچه راهنمای طبق شواهد علمي موجود گنوئي، استفاده اين اين دستگاه امكان پذير من باشد.

## محيط زيست

دستگاه را مانند ساپر زياله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید.

با انجام اين كارشما به حفظ محيط زيست كمک من کنيد (شكل 8).

## پشتيباني

اگر نياز به پشتيباني يا اطلاعات داريد، لطفاً از سایت اينترنت Philips به نشان [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) بازدید کرده يا دفترچه ضمان جهانی را مطالعه کنيد.